

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ  
نئی دہلی

1 جون 2020

پریس ریلیز

جامعہ نے اپنی مرکزی لائبریری کے ڈیجیٹائزیشن یونٹ کے لئے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکینر حاصل کیا

ڈاکٹر زاہر حسین لائبریری ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنی ڈیجیٹائزیشن یونٹ کو آن لائن فارمیٹ میں درس و تدریس اور تحقیق کے شعبے کو فروغ دینے اور اس کو مزید فعال و بہتر بنانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ اور ہیڈ اسکیننگ آلہ حاصل کیا ہے۔ یہ آلہ فن ، تاریخ و ثقافت اور اس کے نادر نسخوں نیز دستاویزات کی نقل تیار کرنے کے ساتھ دیگر قدیم نشرو اشاعت کے اثاثوں کی کاپی سوز اس کے تحفظ کے لیے کافی کارگر ثابت ہوگا۔

دستاویزات کی ڈیجیٹل تحفظ نہ صرف ہمارے قومی اور بین الاقوامی اسکالرز کو ان وسائل کی آسان رسائی مہیا کرے گا بلکہ اس سے علمی تحقیق کا دائرہ بھی وسیع ہوگا۔

فرانس میں تیار ہوئے ، اس انتہائی تیز رفتار اسکینر میں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کسی صفحے کو اسکین کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ اسکینر ہندوستان کے قومی آرکائیوز ، وزارت ثقافت برائے حکومت ہند کے مالی تعاون سے حاصل ہوا ہے۔

یہ اسکینر دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹی کی لائبریریوں جیسے جان ہاپکنز یونیورسٹی ، پیٹسبرگ یونیورسٹی ، سنٹرل فلوریڈا یونیورسٹی ، گریجویٹ انسٹی ٹیوٹ آف جینیوا ، فرانس کی نیشنل لائبریری ، ہیگن کی یونیورسٹی ، جرمنی ، میک گل یونیورسٹی ، کلیولینڈ آرٹ ، میوزیم ، اور فن لینڈ کی نیشنل لائبریری انسٹی ٹیوٹ میں بھی لگایا گیا ہے۔

اسکینر میں ، ریئل ٹائم کلر کا مشاہدہ ، آٹو میٹک گلاس اوپننگ ، الیکٹریک فلیٹ اور وی شیڈ بک کریڈل ، ایل ای ڈی کولڈ لائٹنگ ، آٹومیٹک کروپنگ ، خود کار طریقے سے گھماؤ اور اسکی اصلاح و درستی وغیرہ شامل ہیں۔

لائبریری جامعہ کی تاریخ سے وابستہ نادر و نایاب اثاثوں کو بھی ڈیجیٹلائز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جیسے فوٹوگراف ، بانیاں جامعہ مہاتما گاندھی ، حکیم اجمل خان ، مولانا محمد علی جوہر اور ڈاکٹر زاہر حسین جیسے نابغہ روزگار ہستیوں کے روزنامے ، رسائل ، اور صدیوں پرانی یونیورسٹی سے متعلق نیوز کاپس وغیرہ۔

ڈاکٹر زاہر حسین لائبریری ہندوستان کی مرکزی یونیورسٹیوں میں جدید اور موثر ڈیجیٹلائزیشن یونٹ رکھنے والی پہلی یونیورسٹی ہے۔ اس یونٹ کے تحت لائبریری تاریخی مخطوطات ، نایاب کتابیں ، پرانے سیریلز ، عربی ، فارسی ، اردو اور انگریزی زبانوں میں محفوظ شدہ دستاویزات کو بڑے پیمانے پر اسکین کرنے اور اسے ڈیجیٹائزیشن کر کے محفوظ بنانے کا منصوبہ ہے۔

اس مشین کے ذریعے صدیوں پرانی دستاویزات کو لائبریری کے محفوظ احاطے میں ڈیجیٹائز کیا جائے گا، اس مقصد کے لیے لائبریری کے عملے کو بھی تربیت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی سنٹرل لائبریری پہلے ہی موجودہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنے صارفین کو اپنے گھروں اور دیگر دور دراز مقامات سے ای وسائل کے ذخیرے تک رسائی فراہم کر رہی ہے۔

احمد عظیم  
پی ار او - میڈیا کوآرڈینیٹر